

از حبش ڈاکٹر تنزیل الرحمن صاحب
چیرمین اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان

اسلام — اور — سود

لفظ ربا کی حقیقت | ربا کے لفظی معنی ”زیادتی“ کے ہیں لیکن شرعی اصطلاح میں ربا اس زائد رقم کا نام ہے جو قرض خواہ اپنے مقرض سے مہلت کے معاوضے میں وصول کرتا ہے۔ چنانچہ امام طبری (متوفی ۳۱۰ھ) نے تفسیر طبری (جلد ۳ ص ۶۴) میں آیت قرآنی ”اعلئذ البیع وحرم الربوا“ کی تفسیر میں لکھا ہے :-
”ربا وہ زیادتی (مالی) ہے جو سرمایہ دار اپنے مقرض کو قرض کی ادائیگی کی مہلت دے کر حاصل کرتا ہے“

ابن عربی نے احکام القرآن جلد ۱ ص ۱۰۰ میں ربا کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے :-
”ربا ہر ایسی زیادتی کا نام ہے جس کے مقابلے میں مال کا عوض نہ ہو“

یہی تعریف صاحب بدایہ برہان الدین مرغینانی نے بھی کی ہے۔ (الہدایہ جلد ۳ کتاب البیوع۔ فصل الربوا ص ۶)
امام فخر الدین رازی (متوفی ۶۰۶ھ) اپنی مشہور تصنیف تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ

”ربا کے معنی زیادتی کے ہیں لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ہر طرح کی زیادتی وصول کرنا حرام ہے بلکہ ربا کی جو حرمت ہے وہ ایک خاص قسم کا معاہدہ ہے جو عربوں میں ”ربوا“ کے نام سے موسوم اور معروف و مشہور تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جس ربا کو حرام قرار دیا ہے اس سے یہی ”ربا نسبیہ“ (ادھار) مراد ہے جو عربوں میں موسوم تھا۔“

ربا کی مندرجہ بالا تعریفات سے یہ نتیجہ باسانی اخذ کیا جاسکتا ہے کہ ربا مطلق زیادتی کو نہیں کہتے۔ بلکہ شریعت میں ایک خاص قسم کی زیادتی کو ”ربا“ کہتے ہیں ورنہ جتنی تجارتیں ہیں ان میں زیادتی ہوتی ہے، نفع ہوتا ہے۔ ربا (سود) قرض کی واپسی میں مدت مقررہ کا معاوضہ ہے اور یہ مدت چونکہ مال نہیں ہے لہذا اس مدت کا عوض ناجائز قرار دیا گیا ہے خواہ وہ روپے کی صورت میں ہو یا کسی شے کی صورت میں۔ بالفاظ دیگر معاملات کے پس منظر میں جب تک ”مال“ رہتا ہے وہ سود نہیں ہوتا مگر جب ایک طرف روپیہ اور دوسری طرف مال سے خالی محض مہلت کا عوض ہوتا ہے تو وہ سود ہو جاتا ہے۔

اردو زبان میں ”ربا“ کے معنی سود سے کئے گئے ہیں عربی زبان میں ”ربا“ اور اردو زبان میں ”سود“ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں کیونکہ اختلاف کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب کہ شے کی حقیقت اور ماہیت بدل جائے۔ یہاں خواہ لفظ ”ربا“ بولتے یا ”سود“ اس شے کی حقیقت نہیں بدلتی جو ہمارے درمیان رائج اور معلوم ہے۔

ہر معنی اپنی اصل میں ”زیادتی“ کے پہلو کو لئے ہوئے ہے۔ یہ نو مقامات یعنی سورۃ البقرہ آیت ۲۷۵ (تین بار) آیت ۲۷۶ دو بار۔ آیت ۲۷۸، سورۃ آل عمران آیت ۱۳۰۔ سورۃ النساء آیت ۱۶۱۔ سورۃ الروم آیت ۳۹ (دوسری بار) پر لفظ ربا اپنے معنی میں استعمال ہوا ہے جو اہل عرب میں رائج تھا۔ اور جس کا ترجمہ ہم سو کرتے ہیں جو ہم مسلمانوں میں اچھی طرح معروف اور عام ہے۔ سود کی حرمت کے بارے میں حسب ذیل آیات صریح نص ہیں۔ (ترجمہ)

- جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے جس طرح اٹھتا ہے وہ شخص جس کے ہوا اس کھو گئے ہوں جن نے لپٹ کر، یہ حالت ان کی اس واسطے ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ خرید و فروخت بھی تو ایسی ہے جیسے سود لینا۔ حالانکہ اللہ نے حلال کیا ہے تجارت کو اور حرام کیا ہے سود کو (بقرہ آیت ۲۷۵) (بقرہ ۲۷۶)
- اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے گناہ گار سے خوش نہیں ہے
- اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو کچھ سود باقی رہ گیا ہے اگر تم مومن ہو۔ (بقرہ ۲۷۸)
- اے ایمان والو! مت کھاؤ سود، دو نے پر دو تا۔ اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم فلاح پاؤ (آل عمران ۱۳۰)
- سو! یہود کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے حرام کیں ان پر بہت سی پاک چیزیں، جو ان پر حلال تھیں اور اس وجہ سے کہ وہ روکتے تھے اللہ کی راہ سے بہت اور اس وجہ سے کہ لوگوں کا مال کھاتے تھے ناحق اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے واسطے، جو ان میں ہیں ورنہ ان کا عذاب (النساء ۱۶۰، ۱۶۱)
- اور جو تم دیتے ہو سود پر کہ بڑھتا رہے لوگوں کے مال میں، سو وہ نہیں بڑھتا اللہ کے یہاں، اور جو تم دیتے ہو زکوٰۃ سے اللہ کی رضا مندی چاہ کر، سو یہ وہی ہے جن کے دو نے ہوئے۔

قرآن پاک کی مندرجہ بالا آیات ربا کے مجموعی مطالعے سے جو صورت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ربا کی حقیقت بیان نہیں فرمائی بلکہ اس بارے میں عرب میں جو صورت رائج تھی اس کے سیاق و سباق میں لفظ ربا استعمال کرنے پر اکتفا کیا۔ کیونکہ وہ لوگ خرید و فروخت کرتے تھے اور مقررہ مدت کے لئے سودی قرض دیتے تھے۔ قرآن مجید میں انتہائی تہدید کے طور پر اس طرح خطاب کیا گیا ہے کہ یا تو وہ اس سے باز آجائیں یا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لئے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:۔

اے ایمان والو! اگر تم مومن ہو تو کچھ سود مقرر وض کے ذمہ تمہارا باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، معاف کر دو۔ اور اگر تم نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسولؐ سے لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ اور اگر تم توبہ کرتے ہو تو تمہارے واسطے ہے تمہارا اصل مال نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر۔ (البقرہ ۲۷۹)

قرآن مجید میں سود کے ممانعت کے بارے میں پہلے ایک حکم دیا گیا جو اپنی جگہ قائم رہا۔ دوسرے حکم کے ذریعے اس کی تکمیل کی گئی۔ چونکہ عرب میں سود بخوری عام تھی۔ سرمایہ داروں کا دعویٰ تھا کہ سود بھی تو ایک طرح کا لین دین ہے جس میں روپے کی تجارت ہوتی ہے۔ چنانچہ سرمایہ داروں کے اس زعم باطل کی تردید کی گئی۔ سود تجارت جیسی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ پہلی شریعت یہودیوں میں سود کی ممانعت کا ذکر کیا گیا اور مسلمانوں سے کہا گیا کہ "اے مسلمانو! سود در سود نہ کھاؤ۔" اس کے بعد سودی کاروبار کی مکمل تحریم کا حکم دیا گیا کہ سود کی بابت جو بھی تمہارا مطالبہ لوگوں کے ذمے ہے اسے چھوڑ دو اور صرف اصل رقم لینے پر اکتفا کرو۔ اور اگر مقرض تنگ دست ہو تو فرخی تک اسے مہلت دو اور اگر سمجھو تو اصل قرضہ بھی معاف کر دو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔

ربو فی النحریش | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سود کے سلسلے میں متعدد احادیث مروی ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سودی کاروبار، دستاویز وغیرہ لکھنے والوں کو مجرم قرار دیا ہے ایک اور حدیث میں سود لینے والے اور دینے والے اور سودی دستاویز لکھنے والے اور معاملہ سود کی گواہی دینے والے پر لعنت کی اور فرمایا کہ یہ تمام لوگ گناہ کے ارتکاب میں برابر ہیں۔

حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں یہ اعلان کیا کہ ہر قسم کا سود ساقط ہے۔ البتہ اصل رقم تمہاری ہے اور وہ تمہیں ملنی چاہئے تاکہ نہ تم پر ظلم ہو اور نہ تم دوسروں پر ظلم کر سکو۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ سود قطعی ساقط ہے اور میں عباس بن مطلب کے سود سے آغاز کرتا ہوں جو قطعی ساقط ہے۔

اس خطبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ہر قسم کے سودی کاروبار کی ممانعت کا قطعی اعلان فرما دیا بلکہ خود اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ان کی تمام سود کی رقم کو ساقط قرار دے دیا۔ (واضح رہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن مطلب کا روپیہ جو وہ سود پر چلائے تھے بے شمار لوگوں پر واجب تھا۔

تبادلہ اشیا میں سود | سودی کاروبار کی یہ صورت جو سود پر روپے کے لین دین سے متعلق تھی نہ صرف عرب بلکہ ساری دنیا میں عام تھی اور پچھلی شریعتوں میں بھی حرام اور ممنوع تھی۔ لیکن عرب میں ربا کی ایک صورت تبادلہ اشیا کے ذریعے بھی پائی جاتی تھی۔ وہ یہ کہ ایک شخص مثلاً ایک من گندم قرض لیتا اور مدت گزر جانے پر اس کے

عوض دو من گہیوں واپس کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کے ذریعہ اس قسم کی معاہدات کو بھی حرام اور ممنوع قرار دیا جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ سود صرف روپے کے لیے دین تک ہی محدود نہیں بلکہ ہم جنس اشیا کے تبادلوں کی صورت میں بھی سود کا اطلاق ہو گا۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سونا سونے سے بدلنا اور چاندی چاندی سے بدلنا اور گہیوں گہیوں سے بدلنا اور جو جو سے بدلنا۔ اور کھجور کھجور سے بدلنا۔ اور نمک نمک سے بدلنا برابر اور دست بدست ہو تو جائز ہے۔ مگر زیادتی، ادھار یا نقد کے ذریعہ جائز نہیں۔ البتہ شے کی جنس اور صنف بدل جانے کی صورت میں زیادتی کے ساتھ دست بدست فروخت جائز ہو گی۔ مثلاً ایک من گہیوں کے بدلے دو من جو لینا۔ اس حدیث کے ذریعے اس طریقے کی بھی ممانعت کر دی گئی جو عرب کے حالات کے لحاظ سے خاص تھا۔ ہمارے فقہانے اس اصول کی روشنی میں ہم جنس اور ہم صنف اشیا کا تبادلہ زیادتی کے ساتھ ہونے کی صورت میں سود میں داخل کر دیا ہے۔

یہ سہ قہر آن حدیث کی روشنی میں رہا کی حقیقت جس کی مرید تائید میں قبل ان اسلام عرب تمدن کی تاریخ اور کتب حدیث اسیر اور تواریخ سے بیسیوں واقعات اور شواہد موجود ہیں۔

پاکستان دارالاسلام ہے [فقہی تفصیلات سے قطع نظر دارالاسلام اور دارالحرب کے بارے میں جو موٹی سی بات سب کی سمجھ میں آ جانی چاہئے۔ وہ یہ ہے کہ دارالاسلام اس دار (ملک) کو کہتے ہیں جہاں مسلمانوں کو غلبہ اور تسلط حاصل ہو اور جہاں غلبہ اور تسلط حاصل نہ ہو شرعی اصطلاح میں وہ دارالاسلام نہیں کہلاتے گا چنانچہ پاکستان کو جہاں مسلمانوں کی عظیم اکثریت بستی ہے اور جہاں اسلامی قوانین کے نفاذ میں کوئی امر مانع موجود نہیں، دارالاسلام ہے۔ یہاں اسلامی قوانین کو بالفعل یا بالقوہ نافذ کیا جاسکتا ہے اور غیر مسلم رعایا اپنے مذہبی امور پر عمل کرنے میں اسلامی مملکت کی اجازت کی محتاج ہے۔ اس لئے پاکستان دارالاسلام ہے۔ یہاں سود کی علت بار فرصت کے سلسلہ میں کسی قسم کی گنجائش کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔

سود دارالاسلامی مملکت کے غیر مسلم شہری [بلکہ یہاں یہ نکتہ بھی قابل لحاظ ہے کہ سود نہ صرف اسلامی مملکت کے مسلمانوں کے لئے ممنوع ہے بلکہ اسلامی مملکت کے غیر مسلم شہریوں کے لئے بھی ممنوع ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل نجران کو جو فرمان عطا فرمایا تھا اور جس کے ذریعے ان فہمیوں کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کی تھی اس فرمان میں خاص طور پر یہ پابندی لگا دی تھی کہ وہ سود نہیں کھائیں گے اور "جو بھی آئندہ سود لے گا وہ میری ذمہ داری امن وامان سے خارج ہو جائے گا" (ملاحظہ ہو کتاب الاموال، امام ابو بکر صدیق رحمہ اللہ بن المسلمہ متوفی

۵۲۲ھ - ۱۸۷)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس معاہدے کو برقرار رکھا لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ

خلیفہ ہوئے تو اہل بحران نے سودی کاروبار پھر شروع کر دیا تھا۔ اس لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بحران کو جلا وطن کر دیا۔ مبادا مسلم معاشرہ سودی کاروبار کی لعنت میں مبتلا ہو جائے۔

سود ایک عالمگیر لعنت ہے | سودی کاروبار کی ممانعت صرف اسلام ہی نے نہیں کی بلکہ قدیم یونانی مفکرین نے بھی سود کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ چنانچہ ارسطو نے روپے کو ایسی مرغی سے تشبیہ دی ہے جو انڈے نہیں دیتی کہ صرف روپیہ روپیہ کو پیدا نہیں کر سکتا۔ قانون روم کے واضعین بھی سود کو برا سمجھتے تھے۔ ہندو اور یہودی مصلحین بھی سود کو ناپاک خیال کرتے ہیں۔ تورات اور زبور میں سود کو حرام قرار دیا گیا تھا اور عیسائی عالموں نے بھی تورات کی پیروی میں سود کو منوع قرار دیا تھا۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو انسائیکلو پیڈیا آف ریجنس عنوان USURY عہد جدید کا مفکر کارل مارکس جو جدید اشتراک کی فلسفہ کا بانی ہے اپنی مشہور کتاب داس کپیتال (جلد ۲ ص ۶۵۲) میں لکھتا ہے کہ سود و خوار ایک زبردست شیطان ہے۔ وہ ایک بھیڑ یا صفت انسان ہے جو ہر شے کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ جب ہم چوروں، ڈاکوؤں اور لقمہ زنوں کی گردن مارتے ہیں تو پھر اسی طرح تمام سود و خوار بھی گردن زدنی ہیں۔

۱۔ طبکار کا یہ قاعدہ ہے کہ جب جسم میں فاسد مادہ جمع ہو جاتا ہے تو نشتر دے کر اسے باہر نکالا جاتا ہے۔ ورنہ صحت بھی گدلا ہو جائے گا۔ ملک کی معیشت کو اسلامی بنیادوں پر استوار کرنا ہے تو سودی نظام سے نجات حاصل کرنا ہوگی۔ پرانی بنیادوں پر نئی عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی۔ سارا جسم گل سہر چکا ہے۔ محض پیوندکاری سے کام نہیں چلے گا۔

المختصر یہ کہ قرض (دین) پر زیادتی (سود) حرام ہے خواہ قصور ہو یا بہت خواہ وہ صرف کرنے کے لئے ہو یا تجارتی اغراض کے لئے۔ اسلام میں ربا کا حرام ہونا اسلام کے اقتصادی، اجتماعی نظام کے قیام کے لئے ہے جس کی بنیاد سماجی عدل پر ہے۔ موجودہ اقتصادی نظام (ربا و سود) کے فاسد نظام پر قائم ہے۔ ہم سب پر لازم ہے کہ اس کو چھوڑیں اور قرآن و سنت کے اقتصادی نظام کی پیروی کریں۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے:

”جو اللہ رب العزت سے دُست ہے اللہ رب العزت اس کے لئے کشادگی کا راستہ کھول دیتے ہیں اور اس شخص کو بے اندازہ و بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں (سورہ ۶۵- آیت ۲) یوں تو ہم سب اللہ کو رازق مانتے ہیں اور کہتے ہیں مگر جب ملک سے سود ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے تو یہی لوگ کہتے ہیں کہ ملک کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔

جدید معاشیین کا نقطہ نظر | نہ صرف اسلام بلکہ عصر حاضر کے غیر مسلم معاشی ماہرین بھی سود کی ممانعت کے قائل ہیں۔ چنانچہ لارڈ کیز نے (جو پہلے کیمبرج کے پروفیسر معاشیات تھے اور جنگ دوم عظیم کے بعد حکومت برطانیہ کے مشیر معاشیات بنے) بیان کیا کہ ”دنیا کی تمام معاشی برائیاں جتنی کہ بے روزگاری بھی سود خوری کی وجہ سے ہے جس قوم میں سود کی شرح جتنی کم ہوگی اس کی تہذیب و تمدن اتنا ہی بلند اور مستحکم ہو گا۔“

لارڈ کینز اس نظریے کے بھی قائل ہیں کہ ”اگر اصل زر کی افراط ہو جائے تو بالآخر سود کی شکل میں معاوضہ باقی نہ رہے گا۔ لہذا عملی طور پر بہار انصیب العین یہ ہونا چاہیے کہ اصل زر کی مقدار میں اس قدر اضافہ کیا جائے کہ میکا رہ بیٹھ کر روپیہ لگانے والے کو سود کی شکل میں زیادہ منافع نہ ملے“ چنانچہ لارڈ کینز کا بیان ہے کہ ”ایک ایسا منضبط معاشرہ جس کے پاس جدید عہد کے فنی وسائل موجود ہوں اور جس کی آبادی میں تیزی کے ساتھ اضافہ نہ ہو رہا ہو ایک ہی نسل (GENERATION) میں شرح سود کو صفر تک گھٹایا جاسکتا ہے۔ (ملاحظہ ہو لارڈ کینز کی کتاب ”جنرل تھیوری آف ایمپلائمنٹ، انٹرسٹ اینڈ منی“ چنانچہ لارڈ کینز کے کہنے کے مطابق سود ختم ہونے کا نتیجہ یہ ہو گا کہ سرمایہ دارانہ نظام کی بہت سی برائیوں سے معاشرے کو چھڑکا کر رائل جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی کی جمع کی ہوئی دولت سے شرح سود وابستہ نہ رہے تو اس سے عظیم معاشرتی تبدیلیاں وجود میں آئیں گی۔ اور ہمارے ملک میں سودی نظام سے والہانہ وابستگی اور غلط معاشی پالیسیوں کی وجہ سے صورت حال یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تو شرح سود چار فی صد تھی اور آج دس فیصد ہے۔ پہلے صرف کروڑوں روپیہ سودی کاروبار میں مشغول تھا اور اب اربوں روپیہ سودی کاروبار میں مشغول ہے اور اسی نسبت سے ہماری معاشی مشکلات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔

سرمایہ داری اور اسلام | عہد حاضر میں سرمایہ داری اور اشتراکیت کے درمیان معرکہ آرائی جاری ہے دونوں نظام اپنی اپنی جگہ انتہا پسندانہ نقطہ نظر کے حامل ہیں لیکن اسلام اعتدال کی راہ دکھاتا ہے۔ جو فطرت سے قریب تر ہے اسلام کا معاشی نظام سرمایہ دارانہ نظام کی برائیوں سے پاک اور اشتراکیت کے ظلم و جبر سے سہرا سماجی عدل و مساوات پر قائم ہے۔ مشہور محقق محترم ڈاکٹر حمید اللہ صاحب (مقیم پیرس) نے عرصہ ہوا، اپنے ایک مضمون میں ایک فرانسیسی پروفیسر موسیو لونی ماسین نون کا ایک قول نقل کیا تھا کہ ”سرمایہ داری اور اشتراکیت کے تصادم میں تہذیب اور تمدن کا مستقبل محفوظ اور درخشاں رہے گا جو سود کو ناجائز قرار دے کر اس پر عمل بھی کر رہا ہو۔“

میراجی چاہتا ہے کہ میں اس قول میں ”اشتراکیت“ کے لفظ کو ”اسلام“ سے بدل دوں جس کے معاشی نظام میں چودہ سو سال پہلے ربا (سود) کے تمام دروازے بند کر کے سود کے ریشے تک نکال دئے گئے ہیں۔ سوال صرف عمل کرنے اور عمل کرنے کا ہے۔ اگر ایک طرف ہم میں سے ہر مسلمان یہ ہتھیہ کر لے کہ

”بس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی بے چون و چرا تعمیل میں نہ سود لوں گا اور نہ سود دوں گا۔ اور ہماری ”اسلامی“ حکومتیں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر پورے یقین و اعتماد سے کام لے کر سودی نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں تو انشاء اللہ اسلامی تہذیب کا مستقبل محفوظ و درخشاں اور تابناک ہو گا۔“